



## رسول اللہ ﷺ کثرت سے اپنے رکوع و سجود میں یہ دعا پڑھتے تھے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے إِذَا جَاءَ تَصْرُّ اللَّهُ وَالْقَنُوحُ كَمَا نَازَلَ بِنُورٍ كَمَا بَعْدَ كُوْنِي اَيْسَى نَمَازٍ فِيْهِ يَظْهَى، جَسَ مِیْنِ اَبٍ يَهْ نَهْ پڑھتے تھے: ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي“ پاک ﷺ تو اے ہمارے رب! اپنی خوبیوں کے ساتھ اللہ! مجھے بخش دے ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ کثرت سے اپنے رکوع و سجود میں یہ دعا پڑھتے تھے: ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي“ پاک ﷺ تو اے ہمارے رب! اپنی خوبیوں کے ساتھ اللہ! مجھے بخش دے  
[صحیح] [متفق علیہ]

عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث میں بیان فرما رہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ پر سورہ النصر نازل فرمائی اور آپ نے اس علامت یعنی نصرت اور فتح مکہ کو دیکھا لیا، تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ” آپ اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ جائیں حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیں“ کی تعمیل میں لگ گئے چنانچہ آپ کثرت سے یہ ذکر ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)) پڑھتے تھے ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی تمام نقائص سے پاک، اس کی حمد و ثنا کا تذکرہ اور اخیر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب جیسی چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے آپ اپنی ہر فرض اور نفل نماز کے رکوع و سجود میں یہ تسبیح پڑھتے تھے یہ سورت رسول اللہ ﷺ کی وفات کے قریب بونہ کی علامت بھی تھی

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5212>



النجاه الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

